

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہمارا مقصد صرف مسلمانوں کو متحد کرنا ہے

تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے
ناکہ نور

*ALL PROPHETS (MAY PEACE BE UPON THEM ALL)
WERE HUMAN BEINGS LIKE US*

VOLUME : 2

COMPILED BY :

SAMIULLAH KHOKHAR

(SANDHO TAALIB-E-ILM ISLAMIC ASSOCIATION)

stia.synthasite.com

LEARN QUR'AN, LEARN HADITH
LEARN ISLAM, THE WAY TO PEACE

اس کتاب کو کوئی بھی اہل خیر چھپوا کے مفت تقسیم کر سکتا ہے

if you have any matter that you want us to include into our next volume

contact us E-mail : sandhotalibeilm@gmail.com

website: stia.synthasite.com

note: matter should be authentic & eradicated of misconceptions in the
mind of people

SANDHO TAALIB-E-ILM ISLAMIC ASSOCIATION

2007-2009

REMOVE MISCONCEPTIONS ABOUT ISLAM

SUPPORT US

تمام انبیاء علیہم السلام انسان (بشر) تھے، ان کے بھی ماں، باپ تھے اولادیں تھیں، بیویاں تھیں،
جس طرح کھانا ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، جس طرح پانی ہم پیتے ہیں وہ بھی پیتے تھے، ان
کی بھی پرچھائی ہوا کرتی تھی، انہیں بھی دکھ، سکھ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ کہنا کہ وہ نور تھے یا ان کی
پرچھائی نہیں تھی جاہلانہ عمل ہے، اور پیغمبروں کی بے حرمتی ہے۔

تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے، ناکہ نور

یہ کتاب سینڈو طالب علم اسلامک اسوشیشن کی لوگوں کے ذہنوں سے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کی دوسری کوشش ہے، پہلی کتاب میں آپ سے کیا ہوا وعدہ انشاء اللہ جلد ہی پورا کیا جائے گا جو کہ والیوم نمبر ۳، اسلام اور قبروں کی پوجا، کی صورت میں ہماری ایک کوشش ہے۔

بہر حال اس کتاب میں ہم نے سو فیصد قرآنی آیات کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت اردو اور انگریزی زبانوں میں کی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے، ناکہ نور۔ امید ہے کہ آپ اس کتاب سے کچھ ایسی حقیقتیں جانیں گے جو عرصہ دراز تک آپ سے چھپائی گئی ہیں، لہذا اس کتاب کو مصبت پہلو میں دیکھنے کی گزارش کی جاتی ہے ناکہ منہی، اس کتاب میں تین باب ہیں:

۱: ثبوت کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے

-(INCLUDING PROPHET MUHAMMAD P.B.U.H)

۲: ہر دور کے کفار و شرکین کا یہی اعتراض رہا ہے کہ ہم ہی جیسا ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، اگر یہی عقیدہ آج ایک مسلمان رکھے تو ان کفار اور اس مسلمان میں کیا فرق رہا۔

۳: اللہ نے اپنی کتابوں (تورات، انجیل، زبور اور قرآن) کو نور کہا ہے، انبیاء کو نہیں۔

ایک مسلمان مومن وہ ہے، جس کے سامنے جب آیاتِ ربانی پڑھی جائیں، تو انہیں جھوٹا جانے، اس موضوع پر آج تک کئی کتابیں لکھی گئی ہوں گی، لیکن اس کتاب میں مکمل قرآنی حوالے دے کر کہہ پڑھنے والوں کو اس موضوع کی وضاحت کی اہمیت بتلانا مقصود ہے، کہ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں انبیاء کے بشر ہونے کا ذکر کیا ہے، اور اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نبی کو بشر تسلیم کرنا ایک بڑا گناہ ہے کہ ہر دور کے کفار کرتے آئے ہیں۔

یہ ہمارے لئے نہایت ہی خوشی کی بات ہے کہ سن ۲۰۰۸ کے ماہ جون میں ہماری ملاقات مکہ مکرمہ کے ایک عالم حافظ محمد خلیفہ سے ہوئی، جو اصل میں پاکستان کے ہیں لیکن تقریباً پچھلے ۲۵ سالوں سے ان کی رہائش مکہ میں ہے، ہم نے ان سے اپنی اس اسوشیشن متعلق گفتگو بھی کی اور ان سے چند الفاظ اپنی اس کارکردگی کے متعلق بھی لکھوائے، جو ہمارے لئے کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں۔ یہ یادگار الفاظ کچھ یوں ہیں:

COMMENTS FROM A IMAM OF MAKKAH AL- SHEIKH HAFIZ

MUHAMMAD KHALIFA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله واصلاة والسلام على رسول الله - أما بعد:

جيئن ته محترم سميع الله ڪوڪر جن ديني خدمت جا جذبات ٻڌايا آهن ته

انگريزي اردو ۽ سنڌي ڪتاب ترجمہ ڪري ڇپرائجن ۽ ماڻهن کي ڏجن

الحمد لله ڏاڍي خوشي ٿي الله تعاليٰ کان دعا آهي ته هن نوجوان کي اڃان

به وڌيڪ دين جو شوق ڏي ۽ اهل خير کي گزارش آهي ته هن خير جي ڪم

۾ هر طرح سان هن جو تعاون ڪن

والسلام

حافظ محمد خليفه راهو ڳوٺ اڳرو راهو نيو سعيدآباد هالا حيدرآباد

إمام مسجد شيخ خلف العتيبي مكة مكرمه، ۽ داعيه مكتب الجاليت

تحت إشراف و زارة الحج والاقاف مكة مكرمه -

۲۷ جون، ۲۰۰۸

حافظ محمد خليفه

پہلا حصہ

ثبوت کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے

PROOF THAT ALL PROPHETS (MAY PEACE BE UPON THEM ALL) WERE HUMANS LIKE US, INCLUDING
PROPHET MUHAMMAD P.B.U.H

آیت نمبر ۱:

مَا كَانَ [بَشَرًا] أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ

It is not (possible) that a [man] to whom is given the Book, and Wisdom, and the prophetic office, should say to people: "Be ye my worshippers rather than Allah's": on the contrary (He would say) "Be ye worshippers of Him Who is truly the Cherisher of all: For ye have taught the Book and ye have studied it earnestly."

کسی ایسے [انسان] کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔

سورہ آل عمران آیت ۷۹

آیت نمبر ۲:

أَوْ يَكُونُ لَكَ يَتٌ مِّنْ زُرْعَةٍ أَوْ تَرْتَقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

"Or thou have a house adorned with gold, or thou mount a ladder right into the skies. No, we shall not even believe in thy mounting until thou send down to us a book that we could read." Say: "Glory to my Lord! Am I aught [but a man]- a messenger?"

آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک [انسان] ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔

سورہ بنی اسرائیل آیت ۹۳

آیت نمبر ۳:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَاسْتَغْفِرُواهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

Say thou: "I am but a man like you: It is revealed to me by Inspiration, that your Allah is one Allah: so stand true to Him, and ask for His Forgiveness." And woe to those who join gods with Allah,-

آپ کہہ دیجیئے! کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو اور ان مشرکوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔

سورہ خم السجدة آیت ۶

آیت نمبر ۴ :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْتُونٍ

Behold! thy Lord said to the angels: "I am about to create [man], from sounding clay from mud moulded into shape;

ADAM WAS MAN (HUMAN), CREATED FROM CLAY, AS ALLAH SAYS IN SEVERAL PLACES IN QUR'AN AND WE KNOW THAT ADAM WAS ALSO A MESSENGER OF ALLAH, THINK A MESSENGER- HUMAN! (WHICH WE CALL BASHAR IN ARABIC)

اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیر کی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔

سورہ الحجر آیت ۲۸

آیت نمبر ۵ :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Say: "I am but a **man** like yourselves, (but) the inspiration has come to me, that your Allah is one Allah: whoever expects to meet his Lord, let him work righteousness, and, in the worship of his Lord, admit no one as partner.

آپ کہہ دیجیئے! کہ میں تو تم جیسا ہی ایک **انسان** ہوں (ہاں) میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔

سورہ الکہف آیت ۱۱۰

آیت نمبر ۶ :

وَمَا كَانَ لَبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ

It is not fitting for a **man** that Allah should speak to him except by inspiration, or from behind a veil, or by the sending of a messenger to reveal, with Allah's permission, what Allah wills: for He is Most High, Most Wise.

نا ممکن ہے کہ کسی **بندہ** سے اللہ کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پردہ کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے، بے شک وہ برتر ہے حکمت والا ہے۔

سورہ الشوریٰ آیت ۵۱

آیت نمبر ۷ :

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ

Is it a matter of wonderment to men that We have sent Our inspiration to a **man** from among themselves? - that he should warn mankind (of their danger), and give the good news to the Believers that they have before their Lord the lofty rank of truth. (But) say the Unbelievers: "This is indeed an evident sorcerer!"

کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی۔

سورہ یونس آیت ۲

آیت نمبر ۸ :

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Their messengers said to them: "True, we are human like yourselves, but Allah doth grant His grace to such of his servants as He pleases. It is not for us to bring you an authority except as Allah permits. And on Allah let all men of faith put their trust.

ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں۔

سورہ ابراہیم آیت ۱۱



پہلا حصہ ختم

دوسرا حصہ

ہر دور میں کفار اور مشرکیں کا یہی اعتراف رہا ہے کہ ہم ہی جیسا ایک انسان
نبی کیسے ہو سکتا ہے

NON BELIEVERS OF EVERY AGE DENIED THEIR MESSENGERS TO BE HUMANS!

آیت نمبر ۹ :

لَا هَيْئَةَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا التَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ
السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ

Their hearts toying as with trifles. The wrong-doers conceal their private counsels, (saying), "Is this (one) more than a man like yourselves? Will ye go to witchcraft with your eyes open?"

ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کیں
کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے۔

سورہ الانبیاء آیت ۳

آیت نمبر ۱۰ :

قَالَتْ رَسُولُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ
ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ
تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَنْتُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

Their messengers said: "Is there a doubt about Allah, The Creator of the heavens and the earth? It is He Who invites you, in order that He may forgive you your sins and give you respite for a term appointed!" They said: "Ah! ye are no more than human, like ourselves! Ye wish to turn us away from the (gods) our fathers used to worship: then bring us some clear authority."

انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو۔

سورہ ابراہیم آیت ۱۰

آیت نمبر ۱۱ :

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا

What kept men back from belief when Guidance came to them, was nothing but this: they said, "Has Allah sent a **man** (like us) to be (His) Messenger?"

انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک **انسان** کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟

سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۲

آیت نمبر ۱۳ :

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ

The chiefs of the Unbelievers among his people said: "He is no more than a **man** like yourselves: his wish is to assert his superiority over you: if Allah had wished (to send messengers), He could have sent down angels; never did we hear such a thing (as he says), among our ancestors of old."

اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی **انسان** ہے۔

سورہ المؤمنون آیت ۲۲

آیت نمبر ۱۴ . ۱۳ :

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأُتِرْفَنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ

And the chiefs of his people, who disbelieved and denied the Meeting in the Hereafter, and on whom We had bestowed the good things of this life, said: "He is no more than a **man** like yourselves: he eats of that of which ye eat, and drinks of what ye drink.

وَلَنْ أَطْعَمَكُمْ **بَشَرًا** مِثْلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِذَا لَخَّاسِرُونَ

"If ye obey a **man** like yourselves, behold, it is certain ye will be lost.

اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسار والے ہو۔

سورہ المومنون آیت ۲۲- ۲۳

آیت نمبر ۱۵:

فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ

They said: "Shall we believe in two men like ourselves? And their people are subject to us!"

کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں؟ حالانکہ خود ان کی قوم (بھی) ہمارے ماتحت ہے۔

سورہ المومنون آیت ۲۷

آیت نمبر ۱۶:

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثَّنَا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

For they said: "What! a man! a Solitary one from among ourselves! shall we follow such a one? Truly should we then be straying in mind, and mad!"

اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرمانبرداری کرنے لگیں؟ تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہونگے۔

سورہ القمر آیت ۲۲

آیت نمبر ۱۷:

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

"Thou art no more than a mortal like us; then bring us a Sign, if thou tellest the truth!"

تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔

سورہ الشعراء آیت ۱۵۳

آیت نمبر ۱۸ :

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

"Thou art no more than a mortal like us, and indeed we think thou art a liar!

اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے سمجھتے ہیں۔

سورہ الشعراء آیت ۱۸۶

آیت نمبر ۱۹ :

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا
وَاسْتَعْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

That was because there came to them messengers with Clear Signs, but they said: "Shall (mere) human beings direct us?" So they rejected (the Message) and turned away. But Allah can do without (them): and Allah is free of all needs, worthy of all praise.

یہ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرینگے اور منہ پھیر لیا۔

سورہ التغابن آیت ۶

آیت نمبر ۲۰ :

قَالُوا مَا أَشْمَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَشْمَ إِلَّا تَكْذُوبٌ

The (people) said: "Ye are only men like ourselves; and (Allah) Most Gracious sends no sort of revelation: ye do nothing but lie."

اور ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔

سورہ نيس آیت ۱۵



دوسرا حصہ ختم

تیسرا حصہ

اللہ نے اپنی کتابوں کو نور کہا ہے نبیوں کو نہیں

ALLAH DOESN'T CALL HIS MESSENGERS AS LIGHT BUT HIS BOOKS

ایک الجہنم سورہ المائدہ آیت: ۱۵

میرے عزیز! آپ کسی بھی ایسے انسان سے جو نبی کے نور ہونے کا فائل ہو، ایک سوال پوچھنے کہ ہلا تم کیسے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام (INCLUDING PROPHET MUHAMMAD P.B.U.H) نور تھے بشر نہیں تو ایک ہی جواب کوئی دے سکتا ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی ہے۔

اس آیت میں واضح کتاب تو قرآن کو کہا گیا ہے، مگر نور سے کیا مراد ہے رسول کو بھی کہا گیا ہوگا۔

اگر آپ عربی زبان جانتے ہونگے تو اسے جواب دے سکتے ہیں، وگرنہ آپ بیچارے اس کی باتوں میں پھنس جائیں گے، اب کیا کیا جانے؟

اسے کہنے جناب اتنی جلدی کاہے کی ہے، اگلی آیت تو پڑھو آیت نمبر ۱۵ کے ختم ہونے پر "لا" کا نشان ہے یعنی رکنا نہیں، اگلی آیت پڑھو، آیت نمبر ۱۶ کے شروع میں اللہ نے فرمایا

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ

اب پوچھو بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہاں ضمیر واحد کیوں استعمال ہے اب آپ مثال دے کر سمجھائیے:

اگر میرے پاس دو کتابیں ہیں تو میں کہوں گا کہ میرے پاس دو کتابیں ہیں میں ان کے ذریعہ سے تعلیم دیتا ہوں۔

اگر میرے پاس ایک کتاب ہے تو میں کہوں گا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے میں اس کے

ذریعہ سے تعلیم دیتا ہوں۔

اب اس سے ہوجھنے ان دو جملوں میں کیا فرق ہے، جب دو کتابیں نو کہا "ان" کے ذریعہ، اور جب ایک کتاب تو کہا "اس" کے ذریعہ۔ "ان" اور "اس" پر غور فرمائیں۔ "اس" کسی ایک چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، "ان" ایک سے زائد چیزوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

جب کہ اس آیت میں "بہ" یعنی ضمیر واحد استعمال کیا گیا ہے

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ

جسے اردو میں ہم کہیں گے "جس کے ذریعہ سے اللہ"

سوچنے اگر نور اور کتاب الگ الگ چیزیں ہوتیں تو اللہ فرمانا "جن کے ذریعہ سے اللہ" صاحب سے ہوجھنے جس اور جن میں کیا فرق ہے، کہنے وہی فرق ہے جو اوپر مثال میں اس اور ان میں تھا۔

لہذا ثابت ہوا کہ اللہ نے قرآن کو واضح کتاب کہا ہے اور قرآن ہی کو نور کہا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کئی اور مقامات پر اپنی کتابوں کو نور کہا ہے جیسے:

آیت نمبر ۲۱-۲۲:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

O people of the Book! There hath come to you our Messenger, revealing to you much that ye used to hide in the Book, and passing over much (that is now unnecessary): There hath come to you from Allah a (new) light and a perspicuous Book, -

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Wherewith Allah guideth all who seek His good pleasure to ways of peace and safety, and leadeth them out of darkness, by His will, unto the light, - guideth them to a path that is straight.

ان آیات کی تشریح اوپر دی گئی ہے

آیت نمبر ۲۳:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا
تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

It was We who revealed the law (to Moses): therein was guidance and light. By its standard have been judged the Jews, by the prophets who bowed (as in Islam) to Allah's will, by the rabbis and the doctors of law: for to them was entrusted the protection of Allah's book, and they were witnesses thereto: therefore fear not men, but fear me, and sell not my signs for a miserable price. If any do fail to judge by (the light of) what Allah hath revealed, they are (no better than) Unbelievers.

ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے

سورہ المائدہ آیت ۲۳

آیت نمبر ۲۴:

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ
الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِينَ

And in their footsteps We sent Jesus the son of Mary, confirming the Law that had come before him: We sent him the Gospel: therein was guidance and light, and confirmation of the Law that had come before him: a guidance and an admonition to those who fear Allah.

اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی

سورہ المائدہ آیت ۲۶

آیت نمبر ۴۵:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنْزَلَ
الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِيََنَّهُ قَرَأَطِيسَ بُدُونِهَا
وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي
مَخْرَجِهِمْ يَلْعَبُونَ

No just estimate of Allah do they make when they say: "Nothing doth Allah send down to man (by way of revelation)" Say: "Who then sent down the Book which Moses brought?- a light and guidance to man: But ye make it into (separate) sheets for show, while ye conceal much (of its contents): therein were ye taught that which ye knew not- neither ye nor your fathers." Say: "Allah (sent it down)": Then leave them to plunge in vain discourse and trifling.

آپ یہ کہتے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جو موسیٰ لائے تھے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے۔

سورہ الانام آیت ۹۱

آیت نمبر ۴۶:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Those who follow the messenger, the unlettered Prophet, whom they find mentioned in their own (scriptures),- in the law and the Gospel;- for he commands them what is just and forbids them what is evil; he allows them as lawful what is good (and pure) and prohibits them from what is bad (and impure); He releases them from their heavy burdens and from the yokes that are upon them. So it is those who believe in him, honour him, help him, and follow the light which is sent down with him,- it is they who will prosper."

سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں
اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے لوگ پوری
فلاح پانے والے ہیں۔

سورہ الاعراف آیت ۱۵۷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

O mankind! verily there hath come to you a convincing proof from your Lord: For We have sent unto you a light (that is) manifest.

اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔

سورہ النساء آیت ۱۷۴

آیت نمبر ۸: ۴

فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Believe, therefore, in Allah and His Messenger, and in the Light which we have sent down. And Allah is well acquainted with all that ye do.

سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے
ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔

سورہ التغابن آیت ۸



تیسرا حصہ ختم